

بینک چارجز کا شیڈول

یکم جنوری 2019 سے 30 جون 2019 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA. اوپننگ

تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار / سالانہ حجم:

a. 10 ملین روپے تک

b. 10 ملین روپے سے 100 ملین روپے تک

c. 100 ملین روپے سے زائد

کم از کم	پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ (کمیشن)
کم از کم 2000 روپے	0.40 فیصد	0.20 فیصد
کم از کم 2000 روپے	0.30 فیصد	0.15 فیصد
کم از کم 2000 روپے	0.15 فیصد	0.10 فیصد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز اختیار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

وہی کمیشن ہوگا جو نیل ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

درج بالا AA-I

1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

AB. میعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے فائدہ اٹھانے والوں کو منتقل کرنا

II بارٹر امداد / قرضوں کے تحت غیر قابل ادائیگی ایل سیز:

III ترامیم:

a. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ شامل ہو

IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 یونٹس بلز:

میعاد ادائیگی پر

1250 روپے (فلیٹ)

1500 روپے بمعہ درج بالا AA-I کے مطابق کمیشن

1500 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

فی بل 750 روپے، زائد کمیشن کی شرح سے فی مہینہ 0.14 فیصد یا اس کا حصہ۔
پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 700 روپے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب
سے کم از کم 900 روپے وصول کیے جائیں گے)

فی بل 625 روپے فلیٹ

پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع یا ہمارے انویسٹر کا وٹنٹ کے پہلے
سے ڈیٹ ہونے کی صورت میں، انویسٹر کا وٹنٹ کے ڈیٹ ہونے کی تاریخ سے
لاگو شرح منافع

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 50 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 51 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 52 پیسے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب
سے کم از کم 900 روپے وصول کیے جائیں گے)

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی شرح منافع کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک

c. لو جمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

2 سائٹ:

VI اندرونی غیر ملکی دستاویزی بلز:

a. تمام اندرونی کلیمیشن پر لاگو ہینڈلنگ چارجز

b. بنیاد ادا کی، واپس کی گئی اشیاء

c. تمام کلیمیشن غیر ملکی بلز/بشمول معاہدہ/ریٹائرمنٹ

d. سونفٹ چارجز

750 روپے

یو ایس ڈالر 75 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمدی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.14 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب
سے کم از کم 300 روپے وصول کیے جائیں گے)

800 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور VIC پر لاگو ہیں۔)

VII درآمدات کے عوض پیشگی ادا کی گئی

a. سونفٹ منتقلی

b. ڈیمانڈ ڈرافٹ

c. سروس چارجز

1250 روپے

500 روپے

0.12 فیصد - کم از کم 1500 روپے

VIII کریڈٹ رپورٹس:

a. غیر ملکی سپلائرز پر

b. غیر ملکی بینکوں کے لیے، اُن کی درخواست پر

c. غیر ملکی بینکوں کے لیے، صارف کی درخواست پر

IX درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ/مستاجرہ کارجسٹریشن

a. درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ/مستاجرہ کارجسٹریشن

b. درآمدات کے لیے کونٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں

i. اگر رقم اور/یا مدت شامل نہ ہو

ii. اگر رقم میں اضافہ اور/یا مدت شامل ہو

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100

625 روپے

0.10 فیصد فلیٹ، کم از کم 1500 روپے

750 روپے (فلیٹ)

600 روپے علاوہ درج بالا IXA کے مطابق کمیشن

اصل پر

X تلافی چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI پیغام کی ترسیل

a. فیل سونفٹ لیٹر آف کریڈٹ

b. ایل سی میں فوری ترمیم

XII متضاد دستاویز کی ہینڈلنگ

XIV FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفیکیٹ کا اجراء

XV دیگر چارجز

B برآمدات

1. لیٹرز آف کریڈٹ

a. ایڈوانسنگ -

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوس ایشن کرنا

d. تصدیق

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز (اگر لاگو ہوں)

2500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1000 روپے بمعہ کوریئر چارجز (اگر لاگو ہوں)

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1200 روپے

300 روپے

1200 روپے

e. برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f. نان ریڈیڈنٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی گئی تلافی

II اگر محدود ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوس ایشن کے لیے بھیجے گئے ہوں

II اندرونی کلین کیکشن

پاکستانی روپے کی صورت میں، 200 روپے غیر ملکی کرنسی کی صورت میں، یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات زر - غیر ملکی

I بیرونی

a. ڈیمانڈ ڈرافٹ

b. ایف ٹی ٹی

c. ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d. ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

یو ایس ڈالر 12.50

یو ایس ڈالر 30

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 5 علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

II اندرونی

a. ڈی ڈی / ٹی ٹی / ایم ٹی

اگر پرو سیڈرز بینک کے پاس موجود اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں تو کوئی چارجز نہیں، بصورت دیگر 250 روپے وصول کیے جائیں گے۔
1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریولرز چیکس کا اجراء

E خریدے گئے فارن بلز

I غیر ملکی کرنسی انسٹرکشنس:

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے علاوہ 50 روپے ہینڈلنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔
متفرق سیکشن "F" کے مطابق

چیکس، ڈرافٹس، ٹی سیز، آئی ایم اوز، وغیرہ۔ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کے لیے خریدے گئے

II دیگر چارجز

F متفرق:

I غیر ملکی بینک کے چارجز

II پونج / کوریئر اسونفٹ چارجز کی وصولی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

اصل پر

200 روپے

i. 1800 روپے

ii. اگر کوریئر کمپنی سسٹم کے اکاؤنٹ سے کوریئر چارجز ڈیبٹ کر لے تو سروس چارجز 150 روپے لاگو ہوں گے۔

800 روپے فی پیغام

پونج

کوریئر

سونفٹ

اگر رپورٹ بذریعہ فیکس منگوائی جائے تو 300 روپے

275 روپے

500 روپے بمعہ کریڈٹ ریننگ کمپنی کے اصل چارجز پر

III غیر ملکی خریداروں کی کریڈٹ رپورٹ

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

180 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پر فیس لاگو نہیں ہوگی)۔

a. I بینکرز چیک کا اجراء

0.10 فیصد - کم از کم 180 روپے

150 روپے

25 روپے فی شے

100 روپے فی منتقلی بشمول فیکس کی لاگت

b. ڈرافٹس، ایم ٹی، ٹی ٹی کا اجراء

i. ہمارے خطوط کے ذریعے وصول کردہ کورسپونڈینٹ کے ذریعے ادائیگی

c. فیکس / ٹی ٹی پر سوئفٹ چارجز

d. پونج

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

100 روپے فی ٹرانزیکشن (تعلیمی اداروں کی فیس جمع کروانے پر کوئی آن لائن

چارجز لاگو نہیں ہونگے)

300 روپے

200 روپے

200 روپے

300 روپے

f. آن لائن کیش جمع کرنا / رقم نکلوانا

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

IV ڈیمانڈ ڈرافٹ کی ڈپلیکیٹ

V ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B. اندرون ملک تجارت

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.25 فیصد کم از کم

1250 روپے

600 روپے

I میعاد ختم ایل سیز کی توثیق نویائے فائدہ اٹھانے والوں کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھلنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات کے لیے تضادات کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ شامل ہو

900 روپے

900 روپے علاوہ کمیشن، بعد کی فی سہ ماہی کے لیے 0.25 فیصد کی شرح پر

(B(II کے مطابق 900 روپے علاوہ کمیشن

V ریٹائرمنٹ:

1- مقامی ایل سی کے تحت نکلوائے جانے والے بلز کی ریٹائرمنٹ

2- یوزننس بلز: میعادِ ادائیگی پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی شرح منافع کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c. لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

(ii) لوکل ایل سیز کے تحت وصول کردہ بلز کی ریٹائرمنٹ

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 46 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 47 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی دن

VI کلکیشن

a. دستاویزی (ایل ڈی بی سی اور ایل ای ڈی بی سیز)

b. کلین (بشمول چیکس)

c. رجسٹریشن کے ہینڈلنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پر چیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک ایل سیز کے لیے نیگوسیشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a. دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر وصول کیے گئے ہوں

b. دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.35 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 36 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک
0.35 فیصد کم از کم 25 روپے، فی دن ہزار روپے پر 36 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز
500 روپے

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہو (درج بالا V-I) زائد چارجز ہوں گے۔

a. کلکینگ بینک چارجز (اگر کلکینگ بینک، بینک الحیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b. بذریعہ فون / فیکس انسٹرومنٹس کی پوچھ گچھ

c. انسٹرومنٹ واپس کرنے کے چارجز

دستاویزات کی وصولی کے لیے

کلین کی وصولی کے لیے

d. اسٹورج چارجز

200 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

e. کوریئر چارجز:
بینک الحیب کی برانچوں کے لیے
دیگر بینکوں کے لیے

60 روپے
125 روپے

اصل اضافی
منصوبے پر عملدرآمد اور جائزہ فیس 1 فیصد
اور/یا انتظامی فیس 1 فیصد
اور/یا قانونی اور انتظامی فیس 1 فیصد
اور/یا مکٹمنٹ فیس 1 فیصد

یا پیشگی انتظام کے مطابق

C. فنڈنگ / ایڈوانسز
I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے ساتھ اضافی لیے جائیں گے:
دستاویز کاری، سکیورٹی کا تحمینہ اور اس کی بحالیت

II رہن پر فنانس کے لیے

درج ذیل چارجز نافذ ہو سکتے ہیں:

اصل
اصل

- گودام کا کرایہ
- گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم چارجز
- گودام کے معائنے کے چارجز:
- i. میونسپل حدود کے اندر
- ii. میونسپل حدود کے باہر
- d. ترسیل کے چارجز - اگر گودام کا رکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو
- e. اسٹاک کا معائنہ:

- اگر یہ معائنہ بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں
- ii اگر یہ معائنہ بینک کا اسٹاف کرے
- f. کاروباری مکٹمنٹس اور متلافی کمیشن

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے
قوانین کے مطابق فی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے
اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 100 روپے فی ترسیل

اصل
اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 100 روپے فی معائنہ
اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو
پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول
کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ
کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

125 روپے فی ترسیل
اصل

g. رہن کے سامان پر ڈیلیوری آرڈر چارجز
h. (i) دیگر ضمنی اخراجات، بیمہ کا پرمیئم
(ii) قانونی چارجز:

• اندرونی قانونی معاونت:

• جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

• دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹیز پر استحقاق کی نوٹنگ

• بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

100 روپے فی رپورٹ

IV۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان-فارم لون

0.5 ملین تک کے قرضے

0.5 ملین سے زیادہ 2 ملین تک

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ

(ii) پہلے ٹریڈر کیلئے قرضہ

(iii) دیگر ٹریڈرز کیلئے قرضہ

کوئی نہیں

1500 روپے

3000 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے

کوئی نہیں

اوپر دیئے گئے سلیب کے مطابق رقم

1000 روپے
2000 روپے
5000 روپے
10000 روپے
20000 روپے
30000 روپے
50000 روپے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک
5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک
10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک
20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک
50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک
100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / او آف ٹرانزیکشنز اور عارضی ایکسٹینشنز
VI۔ چینل فنڈنگ

5000 روپے فلیٹ
کوئی نہیں

(i) نئے / تجدید شدہ / اضافی

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / او آف ٹرانزیکشنز اور عارضی ایکسٹینشنز

نوٹ: سی ایف ڈی / برانچ / احب کے ذریعے کسی بھی ڈیلر شپ پروگرام کے مطابق بک شدہ تمام کیمرز / اکاؤنٹس یا سی ڈی ایف کے ذریعے وینڈر فنڈنگ پروگرام کیمرز اس کیلکولی میں آتے ہیں اور SOC کے صفحہ نمبر 7 پر (ii) اور (i) VI میں دیئے گئے چارجز ان پر لاگو ہوں گے۔

VII۔ سال / ایڈ میڈیم اینٹر پرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

(i) نیا / تجدید شدہ

فنڈز / سیلٹی 10 ملین تک

فنڈز / سیلٹی 10 ملین سے زیادہ

(ii) نیا / تجدید شدہ / ون آف / انہینسمنٹ

- نان فنڈ / سیلٹی

- ایل جی / بل میں رعایت اور بل کی خریداری

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنڈنگ، کمرشل وہیکل لیزنگ کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لاگو ہیں۔

D۔ سیف ڈپازٹس میں سکیورٹیز، سیف کھڈی اور آرٹیکلز کی خرید و فروخت:

I۔ سکیورٹیز کی تحویل

شیرز کی مارکیٹ ویلیو کا 0.25 فیصد / مقررہ سکیورٹی کی لاگت علاوہ سی ڈی سی اور

بیمہ چارجز

10,000 روپے کی پہلی قیمت خرید پر 0.125 فیصد یا اس کی لاگت - کم از کم

25 روپے علاوہ سی ڈی سی اور بیمہ چارجز

10,000 روپے سے زائد کی رقم پر 0.0625 فیصد - کم از کم 100 روپے

بمعدی ڈی سی اور بیمہ چارجز

II۔ شیرز اور سکیورٹیز کی خرید و فروخت

III۔ سیف کھڈی کے لیے شیرز اور سکیورٹیز پر ہینڈلنگ فیس

100 روپے فی ٹرانزیکشن (اندرونی / بیرونی) بمعدی ڈی سی چارجز جہاں قابل

اطلاق ہوں۔

5 روپے فی سکیورٹی علاوہ بیمہ چارجز

IV۔ حکومتی سکیورٹیز پر ود ڈرال فیس

جب فروخت شدہ شیرز اور / یا سکیورٹیز، سیف کھڈی میں سے ہوں، چاہے شیرز اور سکیورٹیز کی فروخت پر کمیشن، آسٹم (I) کے مطابق ہو یا ود ڈرال فیس، آسٹم (II) اور (III) کے مطابق ہو، جو زیادہ ہوگا وہی وصول کیا جائے گا لیکن دونوں نہیں۔

100 روپے فی سکیورٹی

V۔ ہینڈلنگ چارجز: حکومتی سکیورٹیز کے مبادلے، تجدید، کونسولیڈیشن یا ضمنی تقسیم کے لیے۔

VI۔ سیف ڈپازٹ میں آرٹیکلز

سیف ڈپازٹ میں آرٹیکلز کی فیس کی وصولی یا توجع کرواتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی یا پھر درج

ذیل طریقوں سے لی جائے گی:

300 روپے فی سہ ماہی

100 روپے فی سہ ماہی

a۔ پاکسز اور پیکیجز

b۔ لفافے

نوٹ:

1. درج بالا چارجز بروکریج کے اضافی چارجز ہیں۔

2. جہاں نئی فلوئڈ سکیورٹیز حکومت / حکومتی اداروں اور نئے شیر فلوئیشن کے سبسکرائبرز کو ادا کرنا ہو، وہاں کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا۔

3. جب شیرز / سکیورٹیز کی خرید و فروخت کے آرڈر کی تکمیل، بینک کے دیگر دفاتر سے کی گئی ہو تو تمام ضمنی اخراجات جیسے پونج، بیمہ چارجز وغیرہ، کمیشن بروکریج چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کیے جائیں گے۔

VII۔ لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی براچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر کسی ڈپازٹ، جمع نہ کروایا گیا تو موجودہ اور نئے صارفین سے لاکرز کی سالانہ کم مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

- a کی ڈپازٹ
یا
b سالانہ فیس
c لا کر توڑنے کے چارجز
- چھوٹے لاکر کے لیے 30,000 روپے
درمیانے لاکر کے لیے 40,000 روپے
بڑے لاکر کے لیے 45,000 روپے
چھوٹے لاکر کے لیے 3,000 روپے
درمیانے لاکر کے لیے 4,000 روپے
بڑے لاکر کے لیے 5,000 روپے

E. ضمانتیں

- I بل آف لیڈنگ / ایئر کنسائنمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمینیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ ضمانتیں
- II ڈپوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیکٹر کو جاری کردہ ضمانتیں
- III دیگر ضمانتیں
- IV برآمدی آمدنی پر وہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ ضمانتیں
- V دیگر ضمانتیں جن میں سپلائر یا بائزر کریڈٹ / تنخواہ دار اسکیم کے تحت مؤخر ادائیگیوں کی ضمانتیں شامل ہیں:
- a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی ضمانتی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔
- b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی ضمانتی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔
- 0.50 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1500 روپے
- 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1000 روپے
- 0.30 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ

(کمپیوٹر سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی ماندہ رقم وصول کر لی جائے گی)

VI ضمانتی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گا)

VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے ضمانتوں کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنہیں قرضے کی سہولت میسر ہے ")

نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔

ضمانت جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر ضمانت کی میعاد ختم ہونے تک ضمانتی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F. انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکیورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

1200 روپے فی ٹرانزیکشن

2500 روپے فی ماہ

G. متفرق چارجز:

1. چیکس کی ادائیگی روکنا
 2. لوڈ چیکس کا اجراء
 3. بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس کر دیئے جائیں
 4. اسٹینڈنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنز اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
 5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کا اجراء
 6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء
- (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- 35 روپے
- 35 روپے فی 6 ماہ، اضافی
- 500 روپے فی انسٹرکشن
- 25 روپے فی چیک
- 500 روپے یا اکاؤنٹ میں 500 روپے سے کم جتنی بھی رقم ہو
- 250 روپے فی انسٹرکشن بمعہ ترسیلات زر چارجز
- 400 روپے فی سرٹیفکیٹ

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چار جز
8. اُسی دن چیکس کلیئر کرنے یا رقم کم ہونے کی صورت میں واپس کرنے کے چار جز
9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چار جز
10. دیگر بینکوں / بچت مرکز سے کوہنر پر منافع وصول کرنے کے کلکیشن چار جز
11. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
12. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
13. چیک بک کے چار جز (پیشینہ اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک)
14. سی ڈی آر کے اجراء کے چار جز
15. سی ڈی آر کی ڈپلیکیٹ کے چار جز
16. سی ڈی آر کی منسوخی کے چار جز
17. اکاؤنٹ مینینٹنس سرٹیفکیٹ
18. بذریعہ این آئی ایف بی، بیرون شہر چیکس کی وصولی
19. بیرون شہر، چیک کی واپسی کے چار جز
20. بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی ادائیگی
- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک
- دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک
- دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک

- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک

50 روپے فی ٹرانزیکشن (بذریعہ ایک ایم ٹی 102 منیج، زیادہ سے زیادہ

10 پیمنٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں)

21. ایس ایم ایس الرٹ سروس
22. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ
23. ہولڈ میل چار جز
24. ایکسپریس چیک بک (10 لیوز)
25. بیلنس کا سرٹیفکیٹ
26. پرانے ریکارڈ کا حصول
- 1 سالہ ریکارڈ
- 2 سالہ ریکارڈ
- 3 سالہ ریکارڈ
- 3 سال سے زائد

150 روپے فی کیس

اصل پر (اگر جیتی گئی رقم -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)

27. قومی پرائز بونڈ پر بینک چار جز - جیتی گئی رقم کا دعویٰ
28. قومی پرائز بونڈ پر CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چار جز - جیتی گئی رقم کا دعویٰ

کنز یومر بینکنگ پروڈکٹس

I. ذاتی قرضہ جات

2,500 روپے
بقایا پرسپل کی رقم کا 4 فیصد
قسط کی فی تاخیر ادائیگی 500 روپے
کوئی نہیں
اصل پر
اصل پر

- پروسیسنگ فیس
- پچھلی ادائیگی
- تاخیر ادائیگی
- جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز
- قانونی دستاویزات کے چارجز

II. آٹو کے قرضہ جات

6000 روپے فلیٹ
7500 روپے فلیٹ
آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق
قسط کی فی تاخیر ادائیگی 650 روپے
500 روپے فی کیس

- پروسیسنگ فیس
- نئی گاڑیاں
- درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیاں
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز
- تاخیر ادائیگی
- چیکس کے واپس ہونے پر چارجز

e. قبضے کی بحالی پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)

100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو

اصل پر
اصل پر
اصل پر
آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق
کوئی نہیں
اصل پر

- گاڑی کی تشخیص کے چارجز
- گاڑی کے دوبارہ قبضے کی تشخیص کے چارجز
- قانونی نوٹس کے چارجز
- جزوی ری سیٹ فیس / چارجز
- ذاتی، حادثاتی بیمہ
- گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز

III. آٹولیز

6000 روپے
اصل پر
واجب الادا گھل رقم کا 1 فیصد
اصل پر
اصل پر
لیز کی بقایا رقم کافی دن 0.1 فیصد
500 روپے
اصل پر
100,000 یا اصل پر جو بھی زیادہ ہو
اصل پر (صارف ادا کرے گا)
اصل پر

- پروسیسنگ فیس
- دستاویزات کے چارجز
- ابتدائی بھینے کے چارجز
- اضافی بھینے کے چارجز
- بھینے کے چارجز - گاڑی کی دوبارہ ملکیت
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیک واپس ہونے پر چارجز
- گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز
- دوبارہ ملکیت کے چارجز
- گاڑی کا ٹیکس
- قانونی چارجز

IV. قرضہ برائے رہن

4000 روپے
بقایا پرسپل کی رقم کا 3 فیصد
قسط کی فی تاخیر ادائیگی 500 روپے
500 روپے فی کیس
اصل پر
اصل پر
اصل پر
اصل پر

- پروسیسنگ فیس
- پچھلی ادائیگی فیس / چارجز
- تاخیر ادائیگی کے چارجز
- واپس آئے ہوئے چیکس کے چارجز
- جائیداد کی قیمت کا اندازہ لگانا
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے چارجز / فیس
- قانونی دستاویزات کے چارجز
- پرائم منسٹر پوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرپرائز)

اصل پر
100 روپے
اصل پر
اصل پر
اصل پر

- قانونی دستاویزات کے چارجز
- پروسیسنگ فیس
- تخمینہ مالیت کے چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کا تخمینہ

VI. کریڈٹ کارڈ

- جوائن کرنے کی فیس
- سالانہ فیس - گرین / گولڈ
- ضمنی فیس

کوئی فیس نہیں
کوئی فیس نہیں
کوئی فیس نہیں

- 25 فیصد سالانہ
- 500 روپے
- 500 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 500 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 500 روپے
- 200 روپے
- اصل پر
- اصل پر
- ٹرانزیکشن کی رقم پر 2.5 فیصد

- کریڈٹ کارڈ اے پی آر
- حد سے زیادہ کی فیس
- تاخیر ادائیگی فیس
- کیش ایڈوانس فیس
- کریڈٹ کارڈ / پن کی تبدیلی کی فیس
- چیک کے واپس ہونے پر فیس
- فروخت کی رسید کی حصولی کے چارجز (مقامی)
- فروخت کی رسید کی حصولی کے چارجز (بین الاقوامی)
- غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز

VII. کیش فنانس

- قانونی دستاویز کے چارجز
- پروسیسنگ فیس
- استحقاق کی مارکنگ کے چارجز (بینک الجیب کے علاوہ)
- تاخیر ادائیگی کے چارجز

اصل پر
کوئی فیس نہیں

- 500 روپے
- رنک فنانس: تاخیر ادائیگی چارجز 500 روپے
- ٹرم فنانس: تاخیر ادائیگی چارجز 500 روپے

VIII. آٹولیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- پروسیسنگ فیس فی ٹریچ
- دستاویزات کے چارجز
- ابتدائی صفینے کی فیس / چارجز
- تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز
- واپس ہو جانے والے چیک کے چارجز
- گاڑی کی دوبارہ ملکیت کے نی گاڑی چارجز / اندرون اور بیرون شہر
- گاڑی کے معائنے کے چارجز
- گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز

- لیز کی رقم کا 0.1 فیصد یا 5000 روپے - جو بھی زیادہ ہو
- اصل پر
- کوئی نہیں
- لیز دینے والے کی متفقہ شرائط و ضوابط کے مطابق
- 500 روپے فی کیس
- 100,000 روپے یا اصل پر - جو بھی کم ہو
- اصل پر
- اصل پر

آلٹرنیٹ ڈیلیوری (اے ڈی سی) چینلو

I. اے ٹی ایم

- اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- متبادل اے ٹی ایم کارڈ کی فراہمی
- انٹر بینک فنڈز منتقلی، بذریعہ اے ٹی ایم
- 10,000/- روپے تک
- 10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
- 50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
- 75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک
- بینک الجیب کے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ میں رقم کی تبدیلی
- اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکالنے پر
- لوکل بیلنس معلوم کرنے کے چارجز (ون لنک)

- 100 روپے
- 300 روپے

- 20 روپے
- 40 روپے
- 60 روپے
- 90 روپے
- کوئی چارجز نہیں

- 18.75 روپے فی ٹرانزیکشن
- 2.5 روپے فی ٹرانزیکشن

II. انٹرنیٹ بینکنگ

کوئی چارجز نہیں

a. نیٹ بینکنگ پاس ورڈ کا دوبارہ اجراء

b. انٹرنیٹ فنڈز منتقلی بذریعہ انٹرنیٹ

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

c. بینک الحیب کے کسی اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی

III. ویزا ڈیبٹ کارڈ

a. بنیادی کارڈ کی سالانہ فیس

b. ضمنی کارڈ کی سالانہ فیس

c. بنیادی کارڈ کے اجراء کی

d. سپلیمنٹری کارڈ کی اجراء کی

e. بنیادی کارڈ کی تجدید کی فیس

f. سپلیمنٹری کارڈ کی تجدید کی فیس

g. متبادل کارڈ کی فراہمی

h. اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرال

i. مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز

j. بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز

k. مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز

l. بین الاقوامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز

m. مقامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال (ون-لنک / ایم نیٹ)

n. بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری چارجز

o. ویزا آر بیٹریشن چارجز

p. غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز

q. کسی بھی اکاؤنٹ سے بینک الحیب میں رقم کی منتقلی

r. بذریعہ اے ٹی ایم انٹرنیٹ رقم کی منتقلی

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

IV. موبائل بینکنگ

a. انٹرنیٹ فنڈز منتقلی بذریعہ موبائل بینکنگ

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

b. موبائل بینکنگ پن کا دوبارہ اجراء

c. بینک الحیب کے کسی اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی

V. چائنا یونین پی

a. سالانہ فیس - بنیادی

b. سالانہ فیس - ضمنی

c. بنیادی کارڈ کے اجراء کی فیس

d. سپلیمنٹری کارڈ کی اجراء کی فیس

e. بنیادی کارڈ کی تجدید کی فیس

f. سپلیمنٹری کارڈ کی تجدید کی فیس

g. تمام متبادل کارڈز کی فراہمی کی فیس

h. مقامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال

i. بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال

j. کیش وڈرال - بینک الحیب لمیٹڈ اے ٹی ایم

20 روپے

40 روپے

60 روپے

90 روپے

کوئی چارجز نہیں

سلور کارڈ کے لیے 750 روپے اور گولڈ کارڈ کے لیے 1000 روپے

سلور کارڈ کے لیے 375 روپے اور گولڈ کارڈ کے لیے 500 روپے

سلور کارڈ کیلئے 750 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 1000 روپے

سلور کارڈ کیلئے 375 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 500 روپے

سلور کارڈ کیلئے 750 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 1000 روپے

سلور کارڈ کیلئے 375 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 500 روپے

سلور کارڈ کے لیے 450 روپے اور گولڈ کارڈ کے لیے 600 روپے

200 روپے فی ٹرانزیکشن یا 2 فیصد، جو بھی زیادہ ہو

اصل پر

اصل پر

اصل پر

اصل پر

18.75 روپے فی ٹرانزیکشن

35 روپے

اصل پر

ٹرانزیکشن کی رقم پر 2.5 فیصد

کوئی چارجز نہیں

20 روپے

40 روپے

60 روپے

90 روپے

100 روپے

کوئی چارجز نہیں

375 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

250 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

375 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

250 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

375 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

250 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

400 روپے (فلپٹ)

18.75 روپے فی ٹرانزیکشن

200 روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2 فیصد، جو بھی زیادہ ہو

کوئی چارجز نہیں

35 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم پر 2.5 فیصد
کوئی چارج نہیں
کوئی چارج نہیں

اصل پر
اصل پر
اصل پر
اصل پر

20 روپے
40 روپے
60 روپے
90 روپے

کوئی فیس نہیں
25 روپے
25 روپے

k. بین الاقوامی سطح پر بینلس انکوائری
l. بین الاقوامی ریٹیل پر چارجز
m. یوٹیلیٹی بل / موبائل بل کی ادائیگی
n. بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز منتقلی
o. مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
p. بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
q. مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
r. بین الاقوامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
s. اے ٹی ایم کے ذریعے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر

10,000/- روپے تک
10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

VI. یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

a. رجسٹریشن

b. ہر کامیاب ٹرانزیکشن

c. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن

VII پے پاک

a. سالانہ فیس - پرائمری

b. اجراء کی فیس

c. تجدید کی فیس

d. متبادل کی فیس

e. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز

f. لوکل ریٹریول درخواست کے چارجز

g. انٹر بینک فنڈز کی منتقلی بزرگیہ اے ٹی ایم

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

کیش منجمنٹ سروسز

a. ملک بھر میں میسر کمیشن سولیوشنز (کارپوریٹس / ایس ایم ای / ایف آئی کے لیے) معاہدے کے مطابق

b. بلک سیلیریز / ادائیگیاں معاہدے کے مطابق

c. ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام معاہدے کے مطابق

d. کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ معاہدے کے مطابق

e. اجراء / فنڈشنز کے لیے بینکرز (آئی پی او / آئی ایف سیز / رائٹ شیئرز وغیرہ) معاہدے کے مطابق

f. دیگر کوئی سروس معاہدے کے مطابق

g. الحبیب کی ادائیگیوں کا نظام (بلک ٹیمینٹس) معاہدے کے مطابق

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے				GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی)
کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 3,000 روپے				GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)
زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن (شرح)	سیکیورٹی ریٹ	(c) بروکر چارجز
(روپے میں)	(روپے میں)			
0.30	0.03	0.10 فیصد	399.99 تک	
0.50	0.30	0.075 فیصد	400 سے زیادہ	
زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن (شرح)	سیکیورٹی ریٹ	GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز
(روپے میں)	(روپے میں)			
0.15	0.01	0.10 فیصد	199.99 تک	
0.30	0.15	0.075 فیصد	200 سے 399.99	
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ	
شیرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ				(e) کسٹوڈیل چارجز
ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ				
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ				
نگوانے کی فیس				(f) نگوانے کے چارجز
شیرز کے لئے 0.10 روپے فی شیر				
ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ				
رائٹس کے لئے 0.10 فی رائٹ				
رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ				
نگوانے کی فیس				
شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ				
ابتدائی ڈپازٹ فیس				(9) جمع کروانے کے چارجز
شیرز کے لئے 0.01 فی شیر				
ٹی ایف سی 0.01 فی یونٹ				
رائٹس کے لئے 0.01 فی رائٹ				
ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس				
شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ				

(h) شیرز کی منتقلی کے چارجز ان / آؤٹ

شیرز کے لئے 0.010 فی شیر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)

(i) شیرز پلچ فیس

شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر

(j) NCCPL چارجز

0.0025 فیصد فی شیر

(k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی)

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے

انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز

(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں)

نوٹ:

حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز / حکومتی ڈیوٹیاں ریگولر چارجز کے ساتھ صارف سے وصول کی جائیں گی، جہاں لاگو ہوں۔

۔ اسلامک بینکنگ کے صارفین سے اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق فیس وصول کی جائے گی

۔ پروسیڈنگ کے دوران غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

۔ آن لائن کیش جمع کروانے / نکلوانے کیلئے آن لائن چارجز ہفتے کے دن وصول نہیں کیے جائیں گے

مندرجہ ذیل کے اکاؤنٹس سروس چارجز سے مستثنیٰ ہوں گے:

(i) زکوٰۃ کے مستحقین

(ii) طالب علم (iii) تنخواہ کیلئے سرکاری / نیم سرکاری ملازمین

(iv) پینشن اکاؤنٹس سروس چارجز سے مستثنیٰ ہوں گے بشمول وفات پانے والے ملازمین کی بیوائیں / بچے جو فیملی پینشن کے اہل ہیں

(v) غیر فعال اکاؤنٹس

(vi) اسکول منچمنٹ کمیٹی اکاؤنٹ (صرف سندھ کیلئے۔ بی پی آر ڈی سرکل نمبر 02، جنوری 2010)

UNSC ریگولیشنز کے تحت بلاک / منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان / قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی

بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

